

# یاد دہانی!

ہمیشہ سڑک پار کرنے سے قبل

اپنے بائیں، دائیں اور پھر بائیں

دیکھیں اور چوراہوں پر خاص طور

سے احتیاط برتیں۔ اس بات سے

آگاہ رہیں کہ موٹر گاڑیاں چلانے

میں ڈرائیوروں کی بینائی کی

سطحیں اور اہلیتیں مختلف ہوتی

ہیں۔

ہنگامی 9-1-1 پولیس غیر ہنگامی  
713-884-3131

عام معلومات کے لیے، اپنے مقامی پولیس اسٹیشن سے  
رابطہ کریں (ذیل میں نمبر فراہم کیے گئے ہیں)

مزید معلومات کے لئے، ملاحظہ کریں

[www.houstonpolice.org](http://www.houstonpolice.org)

## ہیوسٹن کے پولیس اسٹیشنز

281-230-6800	ایر پورٹ - بش
713-845-6800	ایر پورٹ - ہابی
713-247-4400	سنٹرل
281-218-3800	کلیئر لیک
713-928-4600	ایسٹ سائڈ
281-913-4500	کنگ ووڈ
832-394-1200	مڈ ویسٹ
281-405-5300	شمال
713-635-0200	شمال مشرق
713-744-0900	شمال مغرب
832-394-0200	جنوبی سنٹرل
832-394-4700	جنوبی جیسٹر
713-731-5000	جنوب مشرق
713-314-3900	جنوب مغرب
832-394-0000	اسپیشل اوپس
281-584-4700	ویسٹ سائڈ

پیدل چلنے والوں کے  
تحفظ کے تئیں آگہی



ہیوسٹن کو

محفوظ

رکھیے



- اندھیرے میں چلتے وقت فلیش لائٹ لے کر چلیں۔
- رات کے وقت اچھی طرح روشن علاقے سے ہی سڑک کو پار کریں۔

## ہوشیار رہیں اور سڑک پر توجہ دیں

- سڑک پار کرتے وقت متنی پیغام نہ بھیجیں، سیل فون پر بات نہ کریں یا ایرفونز نہ پہنیں۔
- الکحل اور/یا منشیات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ چلتے ہوئے یا سڑک پار کرتے وقت آپ کی چلنے اور حتمی فیصلے کرنے کی اہلیت کو ناقص بنا سکتے ہیں۔
- کبھی بھی کھڑی ہوئی کاروں، بسوں یا دیگر رکاوٹوں کے درمیان سے ہو کر سڑک پار نہ کریں۔
- کنارے والے پیدل راستے پر چلیں۔ اگر کنارے والے پیدل راستے دستیاب نہ ہوں تو، سڑک کے کنارے چلیں اور اپنا رخ ٹریفک کی جانب رکھیں۔



- پیدل مسافروں کو خاص طور پر چوراہوں پر محتاط رہنا چاہیے جہاں ڈرائیورز دوسری سڑک پر مڑتے وقت پیدل مسافروں کے راستے پر چلنے کے حق کو بھول سکتے ہیں۔
- اگر دیگر مقامات پر سڑک پار کر رہے ہوں تو، یہ یقینی بنائیں کہ آپ گاڑیوں کے راستے پر چلنے کے حق کو تسلیم کریں۔

- ٹریفک کے متعدد لینز کو پار کرتے وقت سبھی لین پر نظر ڈالیں اور آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ٹریفک کا ہر لین خالی ہے۔ اگر ایک موٹر چلانے والا رک جاتا ہے تو، یہ گمان نہ کریں کہ دوسرے لین کے ڈرائیورز بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے رک جائیں گے۔
- کبھی بھی کھلی شاہراہ کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اس وجہ سے کھلی شاہراہ کے کنارے پر ہوں کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو، اگر ممکن ہو تو، اپنے سیل فون کا استعمال کریں اور مدد طلب کریں۔

## رات کے وقت پیدل مسافروں کے لیے احتیاطی تدابیر

- اگر آپ رات کے وقت ٹریفک کے قریب چلتے ہیں تو چمکیلے رنگ کے یا روشنی منعکس کرنے والے ملبوسات یا جوتے پہنیں۔ لباس نظر آنا چاہیے!

- انتظامیہ برائے تحفظات قومی ہائی وے ٹریفک (این ایچ ٹی ایس اے) کے مطابق، گزشتہ دو برسوں میں پیدل مسافر سڑک استعمال کرنے والے چند گروپوں میں سے ایک ہیں جنہیں بلاکتوں کا سب سے زیادہ تجربہ ہوا ہے۔ 2012 میں ریاستہائے متحدہ میں ٹریفک ٹکروں کی وجہ سے لگنے والی 76,000 چوٹوں میں 4,743 پیدل مسافروں کی اموات ہوئیں۔ ہیوسٹن میں 2014 میں، 2013 کے 45 کے مقابلے 50 پیدل مسافروں کی اموات ہوئیں۔ پیدل مسافروں کی بلاکتوں کی بڑھتی تعداد کو کم کرنے کے لیے پیدل مسافروں کی ان حفاظتی مفید نکات پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔



## سڑکوں اور گلیوں کو پار کرنا

- گلیوں کو کونے سے، ٹریفک سگنلز اور کراس واک کا استعمال کرتے ہوئے پار کریں۔
- ہمیشہ سڑک پار کرنے سے پہلے دیکھ لیں اور مصروف سڑکوں کو پار کرتے وقت ڈرائیوروں سے آنکھوں کا رابطہ بنائے رکھیں۔
- پیدل چلنے/ نہ چلنے سے متعلق ٹریفک سگنلز پر عمل کریں اور دیگر پیدل مسافروں کی علامات۔